

214153- ایک آدمی نے ہفت روزے رکھنے کی نیت کی، لیکن بھول کر اس نے کھاپی لیا، تو کیا اس روزے سے روزوں کی ہفتا ہو جائے گی؟

سوال

سوال: میں نے آج یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے رمضان کے روزے کی ہفتا دوں گا، پھر میں بھول گیا کہ آج میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، چنانچہ میں فجر طلوع ہونے کے بعد بیدار ہوا، اور کھاپی لیا، لیکن مجھے میری دادی اماں نے یاد دلایا کہ میں نے تو آج روزے کی ہفتا دینے کیلئے روزہ رکھنا تھا، پھر میں نے مغرب تک کچھ کھایا نہ پیا، تو کیا اس دن کا میرا روزہ شمار ہو جائے گا، کیونکہ میں نے مغرب تک روزہ مکمل کیا تھا؟

پسندیدہ جواب

جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھاپی لے، تو اس کا روزہ درست ہے، جیسے کہ صحیح مسلم (1952) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھاپی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، بیشک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے)

اور حدیث کے عام ہونے کی وجہ سے رمضان، ہفتا، نذر، یا نطفی روزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر کوئی شخص رمضان کے، یا نذر کے، یا کفارے کے، یا کسی بھی طرح سے اسکے ذمہ لگنے والے واجب، یا نطفی روزے میں بھول کر کھاپی لے تو اس کا روزہ مکمل ہے، اس پر کوئی ہفتا نہیں ہوگی" انتہی

"الام" از: امام شافعی رحمہ اللہ (2/75)

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اسی طرح اگر کوئی رمضان یا غیر رمضان، نفل، ہفتا، یا نذر کے روزے کے دوران بھول کر کھالے، یا بھول کر پی لے، یا بھول کر جماع کر بیٹھے، تو اس پر کچھ نہیں ہے؛ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھاپی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، بیشک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے)" انتہی

"فتاویٰ نور علی الدرب لابن باز" (16/479)

چنانچہ مذکورہ بالا بیان کے بعد: آپ نے رات کے وقت سے ہی روزے کی ہفتا دینے کی نیت کی ہوئی تھی، تو آپ کا روزہ درست ہے، اور رمضان کے روزے کی ہفتا اس سے پوری ہو گئی ہے، لہذا بھول کر کھانے پینے سے آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

واللہ اعلم.